

احترام رمضان المبارک اور اس کے تقاضے

رمضان المبارک کی آمد سے ہر سال حکومت غتفت اقدامات کرتی ہے۔ بلکہ آئین میں رمضان المبارک آرڈیننس بنا گیا۔ جس کی رو سے کوئی شخص رمضان المبارک کے احترام میں سرعام کھانی نہیں سکتا اور تمام ہوٹل اور ریسٹورنٹ بھی دن کے وقت بند رکھنے کی ہدایات موجود ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کے ظاہری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر حکومت نے ایسے اقدامات کرنے کے لئے آرڈیننس کا فناز کیا ہے۔ لیکن احترام رمضان المبارک اور اس کے تقاضے اور بھی ہیں۔

اس مبارک ماہ کی فضیلت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس سے بڑی اس کی اہمیت اور کیا ہو گی کہ اس مبارک مہینہ میں قرآن پاک نازل ہوا۔ ارشادِ رباني ہے:

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن
اتقى عظيم كتاب جو همارے لئے رشد و ہدایت کا باعث ہے۔ اس مبارک
موقع پر نازل ہوئی اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ جنہیں پورا کرنا ہم سب کی
اولین ذمہ داری ہے۔

رمضان المبارک جو دراصل ہماری عملی تربیت کا مہینہ ہے۔ جس سے ہم صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی خوشبودی کے حصول کے لئے دن کو روزے اور راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ کثرت سے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن حکیم کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل مخفی و مکھاوا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا اولین مقصد تقویٰ حاصل کرنا۔ تاکہ یہ عمل صرف ایک ماہ ہی نہیں بلکہ سارا سال جاری رہ سکے۔ کیونکہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے، کم نہیں تولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ، فریب نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے،

کسی سے زیادتی نہیں کرتے۔ اگر انہاں ایک ماہ مسلسل محنت کر کے ان چیزوں سے پرہیز کر سکتا ہے۔ تو اسے کوشش کرنی چاہئے ان اچھی عادات کو عمر بھر کے لئے اپنالے۔ رمضان المبارک میں نیکیاں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ اس لئے اس کا تقاضا ہے کہ ہم نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ صدقات، فلی عبادت، حلاوت، ذکر کثرت سے کریں۔

رمضان المبارک کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ اپنے اردوگرد کے ماحول کا جائزہ لیں اور ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کریں۔ جہاں انسان خود بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ اسے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی خوب احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو اقلیت میں رہ کر ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں ان کے لئے نہ صرف دعائیں کریں بلکہ ان کے لئے عملی اقدام بھی اٹھائیں۔ رمضان المبارک کے تقاضوں کے میں مطابق ہمیں اللہ کا خوف حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہئے اور تمام اعمال اس کی رضامندی کے لئے کرنے چاہئے۔ کیونکہ محض بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا روزہ نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه
وشرابه

لبقیہ : قاضی محمد سلیمان سیف رحمہ اللہ علیہ

خصوصی نمبر بت ہی خوبصورت ہے اور اس میں شامل تمام مضامین اور مقالے بت اچھے ہیں۔ جس میں مرحوم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا مرحوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہم جامد تعلیم الاسلام کے تمام ذمہ دار ان کو اس خصوصی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی اس کوشش کو بنظر چھین دیکھتے ہیں اور مرحوم کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مجده نصیب فرمائے اور ان کی کوششوں کو قول فرمائے۔ آمین